

برائے فوری اجراء

## برامپٹن ٹرانزٹ 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے، اپنی بسوں کو اضافی گنجائش کے ساتھ چلائے گا

نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہوں گے، کرایہ کی ادائیگی اور اگلے دروازے سے سوار ہونے کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا

برامپٹن، آن (29 جون 2020) – پبل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ اور سٹی آف برامپٹن کے معمولات زندگی کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر، بروز جمعرات 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے، برامپٹن ٹرانزٹ اضافی گنجائش کے ساتھ بسیں چلائے گا۔

سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ پبل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات میں ماسک پہننے کی شدید سفارش کے بعد، برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں اور آپریٹرز کے لیے 2 جولائی سے بسوں کے اندر اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہو گا۔ کرایہ کی ادائیگی اور اگلے دروازے سے سوار ہونے کے عمل کا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔

### بسوں میں اضافی گنجائش

برامپٹن ٹرانزٹ 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے اضافی گنجائش کے ساتھ اپنی بسوں کو چلائے گا، کیونکہ مسافروں کے لیے اسی دن سے ہی نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہو گا۔ ہر بس پر لوگوں کے بیٹھنے کی زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ تعداد درج ذیل ہے:

- 40 فٹ بس: 35 لوگ
- 60 فٹ بس: 55 لوگ

یہ اضافی گنجائش سیٹیں مکمل بھرنے کے برابر ہے۔ مسافر بیٹھ یا کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ مسافر عوامی نقل و حمل پر سفر کرتے ہوئے ہر وقت ماسک پہننے رکھیں، کیونکہ یہ برامپٹن ٹرانزٹ کو زیادہ گنجائش پر چلنے کے قابل بنائے گا۔ ماسک پہننے کی عدم پابندی کے نتیجے میں برامپٹن ٹرانزٹ کو کم گنجائش پر واپس جانا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ بسیں 2 جولائی تک ادھی سیٹوں کی گنجائش کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گی۔

### چھوٹے بچوں اور خطرے کی زد میں آسکنے والے لوگوں کے لیے چھوٹ

چونکہ ماسک لازمی ہوں گے، مگر اس میں کچھ چھوٹ بھی موجود ہے۔ دو سال کی عمر سے کم بچے یا ایسے لوگ، جو طبی وجوہات کی بنیاد پر ماسک نہیں پہن سکتے، اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے، مگر انہیں دوسرے مسافروں سے دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کا کہا جائے گا۔

برامپٹن ٹرانزٹ کی توجہ کمیونٹی کو صحت مند و سلامت رکھنے پر مرکوز ہے۔ ٹرانزٹ کے مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی عقل سلیم کا استعمال کریں، حفاظتی اقدامات پر عمل کریں اور اگر وہ اس قابل ہوں، تو ماسک پہنیں۔

صرف ماسک ہی کورونا وائرس (کووڈ-19) کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکیں گے، مگر آپ کے اردگرد موجود لوگوں کی حفاظت کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ماسک پہننے ہوئے بھی، مسلسل حفظان صحت کے اچھے اصولوں پر عمل کرنا اور جہاں ممکن ہو جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا اہم ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو کسی کووڈ-19 اسپیسمنٹ سنٹر یا موبائل سائٹی سے ٹیسٹ کرائیں اور گھر میں رہیں اور ٹرانزٹ میں سفر کرنے سے گریز کریں۔

نان میڈیکل ماسک کے حوالے سے مزید معلومات مثلاً اپنے نان میڈیکل ماسک کو کیسے درست طریقے سے پہننا، فٹ کرنا، ہٹانا اور صاف کرنا ہے، کے بارے میں جاننے کے لیے پبل پبلک ہیلتھ کی [ویب سائٹیٹ](#) اور حکومت اونٹاریو کی [ویب سائٹیٹ](#) ملاحظہ کریں۔

مؤرخہ 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں پر کرایہ کی ادائیگی ضروری ہو گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بغیر رابطے کے ادائیگی کی ایک صورت کے طور پر اپنا کرایہ ادا کرنے کے لیے اپنے PRESTO کارڈ استعمال کریں۔ ایسے مسافر، جو ابھی بھی اپنے سفر کے لیے نقد رقم استعمال کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی کسٹمر سروس کاؤنٹر سے PRESTO کارڈ حاصل کر لیں۔ محدود وقت کے لیے، PRESTO کارڈ کی \$6 فیس ختم کر دی گئی ہے۔ فی گاہک ایک کارڈ مل سکتا ہے۔

بزرگ افراد کے لیے نقل و حمل کی قابل رسائی سہولیات فراہم کرنا سٹی کی اولین ترجیح ہے اور کورونا وائرس کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام فعال سینئر ID کارڈز کی تاریخ ترمیم کو غیر معینہ مدت تک منسوخ کر دیا گیا ہے۔

ٹرانزٹ ٹرمینلز، ماسوائے ٹریپٹی کامن ٹرمینل کی عمارت، پر کسٹمر کاؤنٹرز کھلے ہیں۔

2020 کے کرایوں میں تبدیلی کو تاحکم ثانی ملتوی کر دیا گیا ہے۔

### سامنے کے دروازے سے سواری

برامپٹن ٹرانزٹ 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے تمام مسافروں کو سامنے سے بیٹھنے کی اجازت دے گا۔ جبکہ مسافروں کو پچھلے دروازے سے اتارنا ہو گا۔

رسائی کی خصوصی ضروریات والے مسافر اگلے دروازوں سے نکلنا جاری رکھ سکتے ہیں۔

### کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے جسمانی فاصلہ بندی کو برقرار رکھیں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینٹائزر یا وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسپسمنٹ سائٹ سے ٹیسٹ کرائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

پبل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ نان میڈیکل ماسک پہنیں، خصوصاً ایسی جگہوں پر، جہاں جسمانی فاصلہ بندی مشکل ہو۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) پر جائیں یا Twitter پر @bramptontransit کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

### اقتباسات

"کاروبار زندگی کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کے ہمارے منصوبے کے حصے کے طور پر، 2 جولائی سے برامپٹن ٹرانزٹ میں کئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ بسیں اضافی گنجائش پر کام کریں گی، نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے کی چیزیں ضروری ہوں گی اور کرایہ کی ادائیگی اور اگلے دروازے سے سوار ہونے کا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ تبدیلیاں کمیونٹی کو صحت مند اور محفوظ رکھیں گی، جبکہ اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ہمارے پاس برامپٹن میں مؤثر اور قابل بھروسہ ٹرانزٹ سروس موجود ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"مجھے اعتماد ہے کہ مسافر، اگر وہ اس قابل ہوں، تو ماسک پہن کر اور اچھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے اپنا خیال رکھیں گے، ٹرانزٹ آپریٹر اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے، تاکہ ہم برامپٹن ٹرانزٹ پر سیٹوں کی گنجائش کو بڑھا سکیں۔ ہم مسافروں کو نقل و حمل کی سہولیات دے رہے ہیں اور ایک ساتھ مل کر ہم کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔"

- رووینا سیٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ کے ذریعے، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ بامعنی گفتگو کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں کہ شہر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک جامع اور سوچا سمجھا طریقہ کار اپنایا جائے۔ یہ فیصلہ مسافروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے پبل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ عمل میں لایا گیا ہے۔"

- مارٹن میڈروس، ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن

برامپٹن ٹرانزٹ ہماری کمیونٹی کو صحت مند و سلامت رکھنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ ہم زیادہ گنجائش پر کام کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ اسی دن سے نان میڈیکل ماسک لازمی ہوں گے۔ مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری ٹرانزٹ سروس کو صحت مند، محفوظ، مؤثر اور قابل بھروسہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)